

**CHEMISTRY**

019 - (نہم کلاس)

کیمسٹری

Q. Paper : I (Objective Type)

PAPER CODE = 5485

سوالیہ پرچہ : I (معروضی طرز)

Time Allowed : 15 Minutes

(پبلگروپ)

وقت : 15 منٹ

Maximum Marks : 12

کل نمر : 12

نوت : ہر سوال کے چار مکان جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرة کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

|   |   |       |
|---|---|-------|
| The number of elements in fourth period is :                                  | چوتھے پیریڈ میں ایٹمیٹ کی تعداد ہوتی ہے :   | 1 - 1 |
| 32 (D)      18 (C)      10 (B)      8 (A)                                     |   |       |
| Which one of the following is strong electrolyte :                            | ان میں سے کون سا طاقتوں ایکٹرولاٹ ہے :  | 2     |
| Benzene (B)      Sugar solution (A)   |   |       |
| Solution of NaOH (D)      Solution of $Ca(OH)_2$ (C)                          |   |       |
| One atm pressure is equal to how many Pascals :                               | 1 atm پریش کتنے پاسکلو کے برابر ہوتا ہے :   | 3     |
| 10235 (D)      10523 (C)      10325 (B)      101325 (A)                       |   |       |
| The Scientist who discovered proton :   | وہ سائنسدان جس نے پروٹون دریافت کئے :   | 4     |
| Bohr (D)      Goldstein (C)      Thomson (B)      Chadwick (A)                |   |       |
| Which one of the following is solid in gas solution :                         | ان میں سے کون سا سلوشن گیس میں ٹھوں ہے :  | 5     |
| Fog (D)      Brass (C)      Butter (B)      Smoke in air (A)                  |   |       |
| The non-metal which is present in group 15 of periodic table :                | نان میٹل جو پیریڈ گیمبل کے گروپ نمبر 15 میں موجود ہے :                            | 6     |
| Iodine (D)      Nitrogen (C)      Sulphur (B)      Carbon (A)                 |   |       |
| Who presented law of octaves :  | آکٹیوز لاء کس نے پیش کیا :  | 7     |
| Mendeleev (D)      Moseley (C)      Newlands (B)      Dobereiner (A)          |   |       |
| The bond formed due to mutual sharing of electron is called :                 | ایکٹروز کے باہمی اشتراک سے بننے والا بانڈ کہلاتا ہے :                             | 8     |
| Coordinate (D)      Metallic (C)      Covalent (B)      Ionic (A)             |   |       |
| Boiling point of sodium chloride is :   | سوڈیم کلورائیڈ کا بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے :  | 9     |
| 1413 °C (D)      1213 °C (C)      1013 °C (B)      800 °C (A)                 |   |       |
| Oxidation Number of hydrogen in metal hydrides is :                           | میٹل ہائیڈرائیڈز میں ہائیڈروجن کا آکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے :                         | 10    |
| +2 (D)      -2 (C)      +1 (B)      -1 (A)                                    |   |       |
| The element which occurs in liquid state at room temperature :                | روم ٹپریچر پر مائع حالت میں پایا جاندا ایٹمیٹ ہے :                                | 11    |
| Mercury (D)      Hydrogen (C)      Sodium (B)      Zinc (A)                   |   |       |
| The volume in $cm^3$ of solute dissolved in 100 grams of solution is called : | سولیوٹ کے والیہ کی $cm^3$ میں وہ مقدار جو سلوشن کے 100 گرام میں حل ہو کہلاتی ہے : | 12    |
| % v/v (D)      % v/m (C)      % m/v (B)      % m/m (A)                        |   |       |



**CHEMISTRY**

019 - (نہم کلاس)

کیمیستری

Q. Paper : I (Objective Type)

PAPER CODE = 5486

سوالیہ پر چھپ : I (معروضی طرز)

Time Allowed : 15 Minutes

(دوسرا گروپ)

وقت : 15 منٹ

Maximum Marks : 12

کل نمبر : 12

نوت : ہر سوال کے چار ممکن جوابات A, B, C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارک رکھا پین سے بھروسہ ہے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

|       |  |
|-------|--|
| 1 - 1 | سوڈیم کی آئیونائزیشن انرجی ہے :  |
|       | 496 KJ / mole (D)      419 KJ / mole (C)      403 KJ / mole (B)      377 KJ / mole (A)                 |
| 2     | الیکٹرولایزر کی مدد سے ایک میٹل کو دوسرا میٹل پر چڑھانا کہلاتا ہے :                                    |
|       | Corrosion (B)      Reduction (A)<br>Oxidation (D)      Electroplating (C)                              |
| 3     | ماں گیز سے کتنے گنا زیادہ بھاری ہوتے ہیں :   |
|       | 100,000 time (D)      10,000 time (C)      1000 time (B)      100 time (A)                             |
| 4     | پلم پنگ ماڈل کس نے پیش کیا :   |
|       | Dalton (D)      Goldstein (A)      Chadwick (B)      Thomson (C)                                       |
| 5     | کنکانیشن ایک نسبت ہے :   |
|       | Solute to solution (B)      Solute to solute (A)<br>Solute to solvent (D)      Solvent to solution (C) |
| 6     | ان میں سے کہاں سب سے نیچے ہے :   |
|       | Sodium (D)      Lithium (C)      Magnesium (B)      Calcium (A)  |
| 7     | ایٹمیٹ کے اتمیک نمبر کس نے دریافت کے :   |
|       | Crooks (D)      Thomson (C)      Newlands (B)      H. Moseley (A)                                      |
| 8     | ان میں سے کون سا نان پور مائیکرول ہے :   |
|       | $H_2$ (D) $H_2O$ (C) $NH_3$ (B) $HCl$ (A)  |
| 9     | سوڈیم کلورائیڈ کا میلینگ پوائنٹ ہے :   |
|       | 1000 °C (D)      800 °C (C)      750 °C (B)      600 °C (A)  |
| 10    | کون سی میٹل گلووانائزگ میں استعمال ہوتی ہے :   |
|       | Fe (D)      Cu (C)      Cr (B)      Zn (A)   |
| 11    | $H_2SO_4$ کا مول ماس ہے :  |
|       | 9.8 amu (D)      9.8 grams (C)      98 amu (B)      98 grams (A)                                       |
| 12    | درجہ حرارت بڑھانے سے کس کی سولبیٹی کم ہوتی ہے :  |
|       | $AgNO_3$ (D) $Li_2SO_4$ (C) $KNO_3$ (B) $Ca(OH)_2$ (A)   |

10 2. Write short answers to any Five (5) questions: 2۔ کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

- (i) Define organic chemistry.

(ii) Write down the name of any two elements which were discovered in early ages.

(iii) What is homoatomic molecule? Give an example.

(iv) What are canal rays?

(v) What is meant by quantum and quanta?

(vi) How did Newlands arrange the elements?

(vii) Write down the name of the elements of first period.

(viii) What is electron affinity? Give an example.

(i) آرگینک کیمیئری کی تعریف کیجئے۔

(ii) ابتدائی ادارمیں دریافت ہونے والے کوئی سے دو ایلیمیٹس کے نام لکھئے۔

(iii) ہومواٹاک مائل کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دیجئے۔

(iv) کینال ریز کیا ہوتی ہیں؟

(v) کوائن اور کوائم سے کیا مراد ہے؟

(vi) نیولیٹز نے ایلیمیٹس کو کیسے ترتیب دیا؟

(vii) پہلے پیریڈ کے ایلیمیٹس کے نام لکھئے۔

(viii) الکٹرون افیڈت کا کیا ہے؟ ایک مثال دیجئے۔

**10 3. Write short answers to any Five (5) questions:**

- (i) Why a covalent bond becomes polar?  
(ii) Describe at least two necessary conditions for the formation of covalent bond.  
(iii) Differentiate between lone pair and bond pair of electron.  
(iv) What do you mean by volume / volume %?  
Also give one example.  
(v) Define the term allotropy with examples.  
(vi) Define suspension with an example.  
(vii) Why water is called a universal solvent?  
(viii) Define true solution with an example.

(i) ایک کووایڈٹ بانڈ پور کیوں بن جاتا ہے؟  
(ii) کووایڈٹ بانڈ بننے کے لیے درکار کم از کم دوضوری شرائط میان کیجئے۔  
(iii) الکٹروز کے لوں پیئر اور بانڈ پیئر میں فرق میان کیجئے۔  
(iv)  $V/V\%$  سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ایک مثال بھی دیجئے۔  
(v) الیٹروپی کی تعریف کیجئے اور مثالیں دیجئے۔  
(vi) سسپنشن کی تعریف کیجئے اور ایک مثال بھی دیجئے۔  
(vii) پانی کو یونیورسل سولوینٹ کیوں کہتے ہیں؟  
(viii) حقیقت سلوشن، کا تعریف کیجئے اور مثال بھی دیجئے۔

**10 4. Write short answers to any Five (5) questions:**

- (i) What is meant by strong electrolytes? Give one example. ایک مثال دیجئے۔ (i) طاقتور الکٹرولائٹس سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجئے۔

(ii) Why is galvanizing done? گلیوانائزگ کیوں کی جاتی ہے؟ (ii)

(iii) What is difference between valency and oxidation state? ویلنی اور آکسیدیشن سٹیٹ میں کیا فرق ہے؟ (iii) (iii)

(iv) Define oxidation in term of electrons? اکسیڈیشن کے حوالے سے آکسیڈیشن کی تعریف کیجئے۔ مثال دیجئے۔ (iv) الکٹران کے حوالے سے آکسیڈیشن کی تعریف کیجئے۔ مثال دیجئے۔

Give an example.

(v) Give any two uses of sodium. سوڈیم کے کوئی دو استعمال تحریر کیجئے۔ (v)

(vi) Define Redox reaction. ریڈاکس ری ایکسیز کی تعریف کیجئے۔ (vi)

(vii) What is meant by electropositive character? میٹھن اور کلورین کے درمیان کیمیائی ری ایکشن کو کیمیائی مساوات کی مدد سے ظاہر کیجئے۔ (vii) (vii) الکٹرو پوزیٹو خاصیت سے کیا مراد ہے؟ ایک مثال دیجئے۔

Give one example.

(viii) Write the chemical reaction of methane with chlorine. Give its chemical equation. میٹھن اور کلورین کے درمیان کیمیائی ری ایکشن کو کیمیائی مساوات کی مدد سے ظاہر کیجئے۔ (viii)

( PART - II )

**Note : Attempt any TWO questions.**

5 5. (ا) نیوٹرن کسے دریافت ہوا؟ اس کی خصوصیات تحریکئے۔

- 4 (b) Give any four differences in compound and mixture. (ب) کمپاؤنڈ اور مکر میں کوئی سے چار فرقے بیان کیجئے۔

5 6. (a) Write down any five properties of metals. (الف) میٹلز کی کوئی سی پانچ خصوصیات لکھئے۔

4 (b) Define evaporation and it depends on which factors? (ب) ایوپوریشن کی تعریف کیجئے اور اس کا انحصار کن فیکٹرز پر ہے؟

5 7. (a) Define corrosion and rusting. Describe any three methods for prevention of corrosion. (الف) کروڑن اور زنگ لگانا کی تعریف کیجئے۔ کروڑن سے چاؤ کے کوئی سے تین طریقے بیان کیجئے۔

4 (b) Write down the four characteristics of colloid. (ب) کولائیڈ کی چار خصوصیات تحریر کیجئے۔